

العشر الفضيل ماله مثليل

(فضائل وأحكام عشر ذي الحجة)

بے مثال فضیلت والے

10 دن

(عشرہ ذوالحجہ کے فضائل و احکام)

اعداد:

عبدالهادی عبدالخالق مدنی

کاشانہ خلیق، اٹو بازار، سدھار تھہ نگر، یوپی

داعی احساء اسلامک سینٹر، سعودی عرب

## العشر الفضيل ما له مثيل

(فضائل وأحكام عشر ذي الحجة)

بے مثال فضیلت والے

# 10 دن

(عشرہ ذوالحجہ کے فضائل و احکام)

اعداد:

عبدالهادی عبد الخالق مدنی

کاشانہ خلیق، اٹو بازار، سدھار تھہ گر، یونپی

داعی احساء اسلامک سینٹر، سعودی عرب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## کائنات میں درجہ بندی کا نظام

پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو ایک درجہ میں نہیں رکھا بلکہ ان میں درجہ بندی کی ہے، کسی کو کسی پر فضیلت عطا کی ہے، کسی کو بلند اور کسی کو پست رکھا ہے، کسی کو اعلیٰ درجہ دیا ہے اور کسی کو ادنیٰ درجہ دیا ہے، کسی کو عام بنایا اور کسی کو خاص، کسی کو اپنا منتخب بنایا اور رسول پر واضح فضیلت عطا فرمائی، ارشاد باری ہے: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾  
القصص: ۶۸ (اور آپ کارب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔)

اللہ تعالیٰ نے اوقات و مقامات بلکہ افراد انسانی میں بھی یہ درجہ بندی قائم کی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں اپنے نبیوں اور رسولوں کو اپنا منتخب بندہ بنایا اور پھر ان میں بھی ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، ارشاد ہے: ﴿تِلْكَ﴾

الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ﴿٢٥٣﴾ البقرة: (یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درجے بلند کئے ہیں۔)

اولوالعزم رسولوں کو بقیہ رسولوں پر فضیلت ہے، اللہ کے دونوں خلیلوں کو اولوالعزم رسولوں کے اندر فوقيت حاصل ہے، اور خاتم الانبیاء تو تمام بني آدم کے سردار ہیں جن میں انبیاء و رسول بھی آتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں ماہ رمضان کو فضیلت دی، سال کے دونوں میں عرفہ کے دن کو اور ہفتہ کے دونوں میں جمعہ کے دن کو فضیلت عطا کی، راتوں میں شب قدر کو فضیلت سے نوازا، عشروں میں ذوالحجہ کا پہلا عشرہ اور رمضان کا آخری عشرہ فضیلت والا بنا یا اور دونوں میں فرق یہ رکھا کہ ذوالحجہ کے پہلے عشرہ کے دونوں کا جواب نہیں اور رمضان کے آخری عشرہ کی راتوں کی کوئی مثال نہیں۔

## سال کے تین عشرے:

سال میں تین عشرے بہت معروف ہیں، ذوالحجہ کا ابتدائی عشرہ، رمضان کا آخری عشرہ اور محرم کا پہلا عشرہ، آئیے دیکھتے ہیں کہ ان تینوں عشروں میں کیا فرق ہے؟

ذوالحجہ کے ابتدائی عشرہ کے فضائل کی تفصیل آگے آرہی ہے، رمضان کا آخری عشرہ بھی کافی اہمیت و فضیلت کا حامل ہے، چنانچہ رمضان کے آخری عشرہ کے تعلق سے بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔

رمضان کے آخری عشرہ کی طاقت راتوں میں شب قدر کا تلاش کرنا منتخب ہے۔ نبی ﷺ اس کی تلاش میں محنت کیا کرتے تھے۔ جب آخری عشرہ آتا تو راتوں کو بیدار رہتے، اپنے اہل و عیال کو جگاتے اور کمر کس لیتے۔

رسول اللہ ﷺ شب قدر کی تلاش میں رمضان کے آخری دس دنوں میں اعتکاف بھی فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی ازواج مطہرات نے بھی آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ اور آپ کی وفات کے بعد مسجد میں اعتکاف کیا ہے۔ جہاں تک محرم کے پہلے عشرہ کی بات ہے تو عوامی شہرت کی حد تک یہ

پہلے نمبر پر ہے لیکن افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے اردو اور ہندی بولنے والے بھائیوں کے درمیان کھوٹے سکے ہی زیادہ رائج ہیں، محرم کے پہلے عشرہ میں جو کچھ ہنگامہ آرائی ہوتی ہے سراسر بے بنیاد ہے، عشرہ محرم کی کوئی حقیقت نہیں صرف عاشورہ محرم کی حقیقت ہے، عاشوراء اور عشرہ میں وہی فرق ہے جو اردو زبان میں دس اور دسوال میں فرق ہے، عاشوراء صرف دسویں تاریخ کا نام ہے جبکہ عشرہ پورے دس دنوں کو شامل ہے۔

جہاں تک صوم عاشوراء کی بات ہے تو یہ مستحب ہے۔ اس دن نبی ﷺ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے صوم رکھا، اس سے قبل اسی دن موسی علیہ السلام نے اللہ کے شکریہ میں صوم رکھا تھا، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسی علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا، چنانچہ موسی علیہ السلام اور بنو اسرائیل نے اللہ کے شکریہ کے طور پر اس دن صوم رکھا اور محمد ﷺ نے اللہ کے نبی موسی علیہ السلام کی اقتدا کرتے ہوئے اس دن صوم رکھا۔ اہل جاہلیت بھی اس دن صوم رکھا کرتے تھے۔ نبی ﷺ نے امت پر اس دن کے صوم کی تاکید فرمائی لیکن جب رمضان فرض ہو گیا تو آپ

صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا: «جو چاہے عاشوراء کا صوم رکھے اور جو چاہے افطار کرے» (۱)۔

عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: «جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا خود صوم رکھا اور لوگوں کو اس کا حکم فرمایا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہود و نصاریٰ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب آئندہ سال ہوگا ان شاء اللہ ہم نویں تاریخ کا (بھی) صوم رکھیں گے۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آئندہ سال آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی» (۲)۔

(۱) یہ حدیث متفق علیہ ہے، اسے امام بخاری اپنی جامع صحیح میں متعدد مقامات پر لائے ہیں، کتاب الصوم باب صیام یوم عاشوراء (کتاب: 36 باب: 68 حدیث: 1897) کتاب التفسیر باب سورۃ البقرۃ (کتاب: 68 باب: 2 حدیث: 4232) اور امام مسلم نے اسے کتاب الصیام باب صوم یوم عاشوراء میں روایت کیا ہے۔ (کتاب: 13 باب: 19 حدیث: 115 - 1125)۔

(۲) یہ حدیث صحیح مسلم میں کتاب الصیام باب ای یوم یصام فی عاشوراء (کتاب: 13 باب: 20 حدیث: 133 (1134)) میں مروی ہے۔

ابو قاتدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: «صوم عاشوراء سے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ پچھلے ایک سال کا کفارہ ہے» (3)۔

یوم عاشوراء کا مہینہ ماه محرم حرمت والے چار مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس ماہ میں بھی نفلی صوم رکھنے کی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: «رمضان کے بعد سب سے افضل صوم اللہ کے مہینہ محرم کا صوم ہے اور فرائض کے بعد سب سے افضل صلاۃ رات کی صلاۃ (تہجد) ہے» (4)۔

(<sup>3</sup>) یہ حدیث صحیح مسلم میں کتاب الصیام باب استحباب ثلاثة أيام من كل شهر و صوم يوم عرفة و عاشوراء والاثنين والخميس (کتاب: 13 باب: 36 حدیث: 196 (162)) میں مردی ہے۔

(<sup>4</sup>) یہ حدیث صحیح مسلم میں کتاب الصیام باب فضل صوم المحرم (کتاب: 13 باب: 38 حدیث: 202 (163)) میں مردی ہے۔

## مسلمان برکتوں کے درمیان

ایک مسلمان ہمیشہ برکتوں کے درمیان ہوتا ہے، اس کا قول بھی مبارک، اس کا عمل بھی مبارک اور اس کا وقت بھی مبارک ہے۔  
 قول کی برکت یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت کا ایک حرف اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اور دس نیکیوں کا مستحق ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا کا کوئی کلمہ بولتا ہے اور جنت میں اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔

عمل کی برکت یہ ہے کہ پانچ صلاتیں پڑھتا ہے پیچاں صلاتوں کا ثواب حاصل کرتا ہے، رمضان کے ایک ماہ کا صوم رکھتا ہے دس مہینے کے صوم کا ثواب پاتا ہے اور شوال کے چھ دن اور صوم رکھ لے تو پورے سال حالت صوم میں رہنے کے اجر و ثواب سے سرفراز ہوتا ہے۔ ایک دانہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عوض ستر دانے بلکہ سات سو دانے بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔

واضح رہے کہ اوقات کے سلسلہ میں جو بعض لوگوں نے مبارک و منحوں (یاسعد و نحس) کی تقسیم کی ہے وہ سر اسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ مسلمان کا

دن اور مہینہ اس کے اپنے عمل اور کردار کی بنیاد پر مبارک یا نامبارک ہے ورنہ اللہ کی شریعت کے مطابق کوئی دن یا مہینہ منحوس نہیں۔

### سب سے زیادہ بابرکت ایام

ذوالحجہ کا پہلا عشرہ یعنی اس کے ابتدائی دس دن سال کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ برکت والے دن ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، ان میں نیکیاں کمانے کے متعدد مواقع ہیں، ان کی فضیلت کے بہت سے دلائل ہیں۔

❶ ذوالحجہ کے ابتدائی دس دنوں کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان دنوں کی قسم کھاتی ہے۔ ارشاد ہے: ﴿وَالْفَجْرِ﴾ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2) وَالشَّفْعُ وَالْوَتْرٍ (3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِرٍ (4) هَلْ فِي ذَلِكَ قَسْمٌ لِّذِي حِجْرٍ﴾ الفجر: ۱ - ۵ (قسم ہے نجیر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، کیا ان میں عقلمند کے واسطے کافی قسم ہے؟۔)

دس راتوں سے اکثر مفسرین کے نزدیک ذوالحجہ کی ابتدائی دس راتیں

مراد ہیں (۵)۔

② ذوالحجہ کے ابتدائی دس دنوں کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھاتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ کئی دیگر اہم چیزوں کی بھی قسم کھاتی ہے۔ ان اہم چیزوں کی عظیم الشان اہمیت کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھی عشرہ کی بھی اہمیت و عظمت واضح ہوتی ہے۔

اس کے ساتھ فجر کی قسم کھاتی گئی جو ایسا قیمتی وقت ہے جس وقت اندر ہیرے کے بعد اجالا بکھرتا ہے، سکون کے بعد حرکت واپس آتی ہے، نیند جو چھوٹی موت ہے ختم ہو کر بیداری اور زندگی شروع ہوتی ہے، اس وقت دن اور رات کے فرشتے اکٹھا ہوتے ہیں، یہ رات کی آخری تھائی سے بہت قریبی وقت ہے جب کہ رب ذوالجلال آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فجر کے وقت کی صلاۃ ہی وہ صلاۃ ہے جس سے مومن و منافق کی پیچان ہوتی ہے۔

اس کے ساتھ جفت اور طاق کی قسم کھاتی، جفت اور طاق میں ساری خلائق آجاتی ہے، مخلوق یا تو جفت ہے یا طاق، اس سے ہٹ کر نہیں، ذوالحجہ کے

(۵) ملاحظہ کیجئے تفسیر طبری و ابن کثیر و آلوسی وغیرہ۔

دس دنوں میں بھی ایک اہم طاق موجود ہے جو عرفہ کا دن ہے، نو تاریخ کو ہے، اور ایک اہم جفت موجود ہے، اور وہ قربانی کا دن ہے، جو دس تاریخ کو ہے۔

اس کے ساتھ میں رات کی قسم کھائی گئی جو دن سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، قرآن پاک میں رات کا ذکر دن سے زیادہ ہے، رات ہی نفلی صلاة اور تہجد کا وقت ہے، رات ہی رب کے ساتھ تہنیٰ کا وقت ہے جس میں اخلاص کی اور ریاء و نمود سے سلامتی کی زیادہ امید ہے، رات ہی کی ایک گھٹری میں وہ مبارک لمحہ بھی آتا ہے جب رب کریم اپنے بندوں سے قریب ہو کر دنیا کے آسمان پر اتر کر ان کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے: کیا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ کیا ہے کوئی سوال کرنے والا جسے میں دوں؟ کیا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کو مغفرت عطا کروں؟؟ - رات کو بستروں سے پہلو الگ رکھنا، شب بیداری کرنا اہل جنت کا امتیاز ہے، ارشاد ہے: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَظَمَعًا وَمِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ (السجدۃ: ۱۶) نیز ارشاد ہے: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ (الذاریات: ۷۱) قرآن مجید میں ایک اور مقام پر رات کو سجود و قیام میں

گزارنے کو رحمٰن کے حقیقی بندوں کی علامت بتائی گئی ہے، ارشاد ہے: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوَنَا وَإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ (الرَّحْمَن: 63) وَالَّذِينَ يَبِيِّطُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾ (الفرقان: ۶۲-۶۳) (رحمٰن کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے۔ اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں۔)

یاد رہے کہ پوری صلاۃ کے اندر قیام اور سجدے کی دو حالت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے اسی لئے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ»<sup>(۶)</sup> «سب سے افضل صلاۃ وہ ہے جس میں لمبا قیام کیا جائے۔»

امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ "اس حدیث میں

<sup>(۶)</sup> یہ حدیث صحیح مسلم میں کتاب صلاۃ المسافرین و قصرها باب افضل الصلاۃ طول القنوت (کتاب: 6 باب: 22 حدیث: 164 (756)) میں مردی ہے۔

قوت سے بہ اتفاق اہل علم قیام مراد ہے<sup>(7)</sup>۔ قیام ہی وہ حالت ہے جس میں اللہ کے مبارک کلام کی تلاوت کی جاتی ہے۔

سجدے کی حالت کا پسندیدہ ہونا کئی احادیث سے ظاہر ہوتا ہے جس میں سے ایک حدیث وہ ہے جس کے اندر رسول ﷺ نے فرمایا ہے: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ»<sup>(8)</sup> «سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے الہذا (اس حالت میں) زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو»۔

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْرَبْ﴾  
 العلق: ۱۹ (سجدہ کر اور قریب ہو جا)۔ نیز وہ حدیث بھی سجدہ کے محبوب ہونے کی دلیل ہے جس میں ایک صحابی نے نبی ﷺ سے جنت کے اندر رفاقت طلب

<sup>(7)</sup> دیکھئے صحیح مسلم معاشر حنوی ۹۲/۳/1257۔

<sup>(8)</sup> یہ حدیث صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ باب ما یقال فی الرکوع والسجود (کتاب: باب: 42 حدیث: 215 (482)) میں مردی ہے۔

کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: «فَاعْنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكُثْرَةِ السُّجُودِ»<sup>(۹)</sup>  
 «زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے اپنے آپ پر میری مدد کرو۔»  
 اس تعلق سے اور بھی کئی احادیث ہیں۔

۳) ذوالحجہ کے ابتدائی دنوں کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہی وہ ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تکمیل کی ہے یعنی ان دنوں میں ہر نوع کی عبادت کو اکٹھا کر دیا ہے، تکمیل دین وہ گراں قدر عطا یہ ہے جس سے اہل دین کی تکمیل ہوتی ہے، ان کے اعمال و کردار اور اجر و ثواب کی تکمیل ہوتی ہے، حیات کاملہ نصیب ہوتی ہے، اطاعت و فرمان برداری میں لذت ملتی ہے، گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے، مخلوقات کی محبت ملتی ہے، سنتوں کو فتح سے ہمکنار اور بدعتوں کو شکست سے دوچار ہونا ہوتا ہے، ایمان اور اہل ایمان کو طاقت و قوت ملتی ہے، نفاق اور اہل نفاق ذلت و لپتی میں گرجاتے ہیں، تکمیل دین سے نفس امارہ پر، شیطان لعین پر اور ناروا خواہشات پر غلبہ نصیب ہوتا ہے، اللہ کی عبادت میں نفس پر سکون ہوتا ہے، قرآن مجید کے اندر تکمیل دین کا اعلان بھی اسی عشرہ میں

<sup>(۹)</sup> یہ حدیث صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ باب فضل السجود والحمد علیہ (کتاب: 43 باب: حدیث: 226 (489)) میں مردی ہے۔

ہوا ہے، جس کی بنی پریہودی ہم سے حسد کا شکار ہو گئے، ایک بار ایک یہودی عالم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا: آپ کی کتاب قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم یوم نزول کو عید بنالیتے، وہ آیت ہے:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي  
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ المائدۃ: ۳ [آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو کامل کر دیا، اور تم پر اپنا انعام بھر پور کر دیا، اور تمہارے لئے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا] عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کب اور کہاں نازل ہوئی ہے؟ جمعد کے دن میدان عرفات میں نازل ہوئی ہے۔<sup>(10)</sup>

یہاں قابل غور یہ ہے کہ دین کامل میں اضافہ کی گنجائش نہیں، وہ خود فطری تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے، اس واقعہ میں بھی اس آیت کا نزول جس

(<sup>10</sup>) یہ حدیث متفق علیہ ہے، اسے امام بن حاری اپنی جامع صحیح میں کتاب التفسیر باب سورۃ المائدۃ (کتاب: 68 باب: 5 حدیث: 4330) میں لائے ہیں، اور امام مسلم نے اسے کتاب التفسیر میں روایت کیا ہے۔ (کتاب: 54 حدیث: 3- (3017))۔

اعتبار سے ہوا ہے وہ خود یوم عید بھی ہے اور مقام عید بھی، جمعہ کے دن ہفتہ کی عید ہے اور میدان عرفات کا اجتماع عظیم الشان سالانہ عید ہے۔

④ ذوالحجہ کے ابتدائی دنوں کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ یہی وہ ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا انتمام کیا ہے یعنی ان دنوں میں ہر قسم کی عبادت کو جمع کر کے روح کی غذا اور اس کی لذت کا سامان کر دیا ہے، انتمام نعمت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اللہ نے اسلام کے لئے اپنے بندوں کے سینے کھول دیئے، وہی سر زمین عرب جہاں یہودیت و نصرانیت اور محبوبیت و وطنیت کا غفلہ تھا اسلام کا پرچم سر بلند ہوا، ارشاد ہے : ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى الِّدِينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ (الفتح: ۲۸) (وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا)۔

اسی انتمام نعمت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ حرم کا داخلہ مسلمانوں کے لئے مخصوص کر دیا گیا اور کفار و مشرکین کو حرم میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔

۵) ذوالحجہ کے ابتدائی دس دنوں کی پانچویں فضیلت یہ ہے کہ یہی وہ ایام ہیں جن میں ہر قسم کی عبادات جمع ہیں، ان دنوں میں کلمہ شہادت کے اقرار، تجدید ایمان اور کلمہ کے تقاضوں کی تکمیل کا بھرپور موقع ہے، ان دنوں میں صلاة پنجگانہ اور دیگر نفلی صلوٹ بھی ہیں، ان دنوں میں صدقہ وزکاۃ کی ادائیگی کا موقع بھی ہے، ان دنوں میں صوم کی عبادت بھی ادا کی جاسکتی ہے، یہ دن حج و قربانی کے دن تو ہیں ہی، البتہ حج و قربانی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف انھیں دنوں میں ادا کئے جاسکتے ہیں دیگر ایام میں نہیں، ذکر و دعا اور تلبیہ پکارنے کے بھی یہ ایام ہیں۔  
 ہر قسم کی عبادت کا ان دنوں میں اکٹھا ہو جاتا یہ وہ شرف و اعزاز ہے جو ان دس دنوں کے ساتھ مخصوص ہے، اس اعزاز میں اس کا کوئی اور شریک نہیں۔

۶) ذوالحجہ کے ابتدائی دس دنوں کی چھٹی فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ ایام ہیں جن کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اور سکنڈ انتہائی قیمتی ہے، ان دنوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے اعمال صالحہ کی شدید محبوہیت کا اعلان عام ہے، یہ وہ خصوصی پیشکش (اپیشل آفر) ہے جو سال کے بقیہ دنوں میں حاصل نہیں ہے، یہ نفع کمالینے کا موسم ہے، یہ نیکیوں میں مقابلہ کرنے کا وسیع میدان اور سنہر اوقت

ہے، حدیث میں ہے: عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ»<sup>(11)</sup>. عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: «عشرہ ذوالحجہ میں کئے گئے عمل صالح اللہ کو جس قدر زیادہ محبوب ہیں اتنا کسی اور دن میں نہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا: حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا پسندیدہ نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنا جان و مال لے کر نکلا لیکن کچھ بھی لے کر واپس نہیں ہوا»۔

حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں کے نیک اعمال سے باقیہ دنوں کے کسی عمل کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا حتیٰ کہ جہاد سے بھی نہیں جس کے

<sup>(11)</sup> یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب العیدین باب فضل العمل فی أيام التشريق (کتاب 19: باب 11: حدیث 926) میں نیز مند احمد میں (حدیث: 1968) بہ سند صحیح مرموٹی ہے، واضح رہے کہ مذکورہ الفاظ مند احمد کے ہیں۔

فضائل معروف و مشہور ہیں، نہ جانی جہاد سے مقابلہ کیا جاسکتا ہے اور نہ مالی جہاد سے، اور نہ بیک وقت دونوں جہاد سے اگر آدمی کی جان یا مال کچھ بھی سلامت رہ گئے، البتہ جو شخص جان و مال دونوں لے کر اللہ کی راہ میں نکلے اور پھر کچھ بھی لے کر واپس نہ ہو، سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور اپنی تیقینی جان اللہ کی راہ میں قربان کر کے شہید ہو جائے۔ یہی تنہا وہ شخص ہے جو ذوالحجہ کے ابتدائی دس دنوں میں نیک اعمال سے اپنا خزانہ معمور کرنے والے کا مقابلہ کر سکتا ہے، ذرا غور کریں کہ ایسی ہمت اور ایسا موقع کس میں ہے کہ سارا جان و مال اللہ کی راہ میں قربان کر دے؟؟ اس کے مقابلہ میں یہ کس قدر آسان ہے کہ اللہ کی طرف سے دیئے گئے اس خصوصی پیشکش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عشرہ ذوالحجہ میں اعمال صالحہ کے ذریعہ اپنادا من مراد بھر لیا جائے۔!!

نیز حدیث میں ہے: عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«أفضل أيام الدنيا أيام العشر»<sup>(12)</sup>. جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: «دنيا کے ایام میں افضل ترین ایام ذوالحجہ کے ابتدائی

(<sup>12</sup>) یہ حدیث مذکورہ الفاظ کے ساتھ مندرجہ (کشف الاستار 2/28، حدیث: 1128) میں ہے اور اسے علامہ البانی سے صحیح قرار دیا ہے۔ [صحیح الجامع الصغير / حدیث: ۱۱۳۳]

دس دن ہیں»۔

⑦ ذوالحجہ کے ابتدائی دس دنوں کی ساتویں فضیلت یہ ہے کہ انھیں میں سے ایک دن عرفہ کا بھی دن ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتَقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْعُونَ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هُؤُلَاءِ؟»<sup>(13)</sup>۔ «عرفہ کے دن سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی اور دن جہنم سے آزادی نہیں عطا فرماتا، اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے پھر ان (عرفہ میں ٹھہرے ہوئے لوگوں) کے ذریعہ اپنے فرشتوں سے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے: یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟»۔

نیز ارشاد ہے: «صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ

(<sup>13</sup>) یہ حدیث صحیح مسلم میں کتاب الحج باب فی فضل الحج وال عمرة ویوم عرفہ (کتاب: 15 باب: 79 حدیث: 436 (1348)) میں مروری ہے۔

السَّيْنَةُ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّيْنَةُ الَّتِي بَعْدُهُ»<sup>(14)</sup>۔ «صوم عرفہ سے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ سال گذشتہ اور آئندہ کافارہ ہو جائے گا»۔

واضح رہے کہ حدیث میں مذکور فضیلت حاجیوں کے علاوہ دیگر لوگوں کے لئے ہے۔ جو حاجی میدان عرفات میں موجود ہوں انھیں افطار سے (یعنی بلا صوم) رہنا چاہئے جیسا کہ نبی ﷺ کی سنت ہے (متفق علیہ) تاکہ ان میں ذکرو دعا کے لئے قوت رہے۔

حاجیوں کے لئے عرفہ میں ٹھہرنا ہی حج کا رکن اعظم ہے کیونکہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: «الْحَجُّ عَرَفةُ»<sup>(15)</sup>۔ «حج عرفہ ہی ہے»۔

(<sup>14</sup>) یہ حدیث صحیح مسلم میں کتاب الصیام باب استحباب ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشراء والاثنين والخميس (کتاب: 13 باب: 32 حدیث: 196 (1162)) میں مردی ہے۔

(<sup>15</sup>) اس حدیث کو ابو داود (کتاب المنساک، باب من لم يدرك عرفة، کتاب: 5، باب: 29)، حدیث: 1929 (ترمذی (کتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، کتاب: 2، باب: 57، حدیث: 814)، نسائی (کتاب مناسك الحج، باب فرض الوقوف

نیز نبی ﷺ کا ارشاد ہے: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمٍ عَرَفَةَ وَخَيْرُ  
مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ  
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»<sup>(۱۶)</sup>. «عرفہ کے دن  
کی دعات تمام دعاؤں سے بہتر ہے، اور سب سے افضل کلمہ جو میں نے اور مجھ سے  
پہلے تمام انبیاء نے کہا ہے وہ یہ ہے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ  
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (اللہ کے سوا کوئی لا اقت  
عبادت نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے، تعریفیں اسی  
کے لئے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے)»۔

❸ ذوالحجہ کے ابتدائی دس دنوں کی آٹھویں فضیلت یہ ہے کہ ان کا دسوال اور

عرفہ، کتاب: 24، باب: 203، حدیث: 3016) اور ابن ماجہ (كتاب المناسك، باب من أتنى  
عرفة قبل الفجر، کتاب: 25، باب: ۵، حدیث: 3015) نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے  
صحیح قرار دیا ہے۔

(<sup>(۱۶)</sup>) اس حدیث کو امام مالک [موطا، حدیث: 500] اور امام ترمذی [كتاب الدعوات، باب في دعاء  
يوم عرفه، حدیث: 3509] وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے سلسلہ صحیح  
[حدیث: 1503] میں اسے ثابت اور صحیح و ضعیف ترمذی [حدیث: 3585] میں حسن قرار دیا ہے۔

آخری دن یوم الحیر ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے:  
 «إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ التَّحْرِيرُ ثُمَّ يَوْمُ الْقُرْبَةِ»<sup>(17)</sup>. «بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں تمام دنوں سے عظیم ترین دن یوم الحیر (قربانی کا دن) ہے، پھر اس کے بعد والادن»۔

یوم الحیر وہ دن ہے جس میں حج کے پیشتر اعمال انجام دیئے جاتے ہیں، اس دن جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا ہے، قربانی کرنا ہے، سرکے بال کٹوانا یا منڈانا ہے، طواف زیارت اور سعی کرنی ہے، ایسے ہی اس دن سارے مسلمان بقر عید مناتے ہیں، عید کی دور کعتین پڑھتے، قربانی کرتے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔

بہر کیف عشرہ ذوالحجہ کے فضائل بہت ہیں، ایک مسلمان کو چاہئے کہ ان مبارک دنوں کو غنیمت سمجھے، انھیں یوں ہی صالح ہونے سے بچائے، ان میں

<sup>(17)</sup> اس حدیث کو امام ابو داود [كتاب المناسك، باب في المدي إذا عطبه قبل أن يبلغ، كتاب: 5، باب: 19، حدیث: 1765] اور امام احمد [حدیث: 19098] نے روایت کیا ہے اور اسے امام ابن حبان [صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، حدیث: 2811] اور علامہ البانی نے [الارواء، حدیث: 1958، صحیح الجامع: 1944، صحیح ابو داود، حدیث: 1549] صحیح قرار دیا ہے۔

ہر نیکی میں سبقت لے جانے کی تگ و دو کرے۔

## ذوالحجہ سے متعلق ضعیف احادیث:

واضح رہے کہ ذوالحجہ سے متعلق بعض ضعیف و موضوع احادیث بھی بیان کی جاتی ہیں جن کا علم رکھنا مناسب ہے تاکہ ہم نادافی میں غیر مستند وغیر معتبر بالتوں میں نہ پھنس جائیں۔

پہلی حدیث:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُتَبَعَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ».

ترجمہ:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے مرفوعاً یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ «عشرہ ذوالحجہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کیا جانا بہت لپند ہے، ان دنوں کا ہر صوم ایک سال کے صوم کے برابر ہے، اور ان دنوں میں ہر رات کی شب بیداری شب قدر میں قیام کے برابر ہے»۔

## تختہ تجھ:

اسے امام ترمذی نے [كتاب الصوم، باب ما جاء في العمل في أيام العشر، كتاب:6، باب:52، حدیث:758] روایت کیا ہے اور اسے ضعیف قرار دیا ہے، ابن ماجہ نے بھی اسے [كتاب الصيام، باب صيام العشر، كتاب:7، باب:39، حدیث:1728] روایت کیا ہے، علامہ البانی نے بھی اس روایت کو [سلسلہ ضعیفہ، حدیث:5142] ضعیف قرار دیا ہے۔

## دوسری حدیث:

«من صام آخر يوم من ذي الحجة وأول يوم من المحرم فقد ختم السنة الماضية وافتتح السنة المستقبلة بصوم جعل الله له كفارة حسین سنة».

## ترجمہ:

«جو شخص ذوالحجہ کے آخری دن اور محرم کے پہلے دن صوم رکھے اس نے گذشتہ سال کا اختتام اور آئندہ سال کا افتتاح صوم سے کیا، ایسے شخص کے لئے اللہ تعالیٰ پچاس سالوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے»۔

### تخریج:

یہ حدیث ضعیف نہیں بلکہ موضوع و من گھڑت ہے۔ ملاحظہ ہو  
الموضوعات لابن الجوزی 2/199، تنزیہ الشریعہ 1/176، اللائل المصنوع  
1/146، تذکرة الموضوعات 1/118۔

### تیسرا حدیث:

«من أَحْيَا لِيْلَةَ الْفَطْرِ وَلِيْلَةَ الْأَضْحَى لَمْ يَمْتَ قَلْبَهِ يَوْمَ  
تَمُوتَ الْقُلُوبَ»۔

### ترجمہ:

«جو شخص عید الفطر اور عید الاضحی کی رات جاگ کر گزارے اس  
کا دل اس دن موت سے محفوظ رہے گا جب سارے دل موت کا شکار ہو جائیں  
گے۔»۔

### تخریج:

یہ حدیث بھی ضعیف نہیں بلکہ موضوع و من گھڑت ہے۔ ملاحظہ ہو  
سلسلہ ضعیفہ، حدیث: 520۔

## عشرہ ذوالحجہ کے اعمال صالحہ:

عشرہ ذوالحجہ میں اعمال صالحہ کی محبوبیت و فضیلت کا ادراک ہم کرچکے،  
اب آئیے دیکھا جائے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جنہیں ہم ان دنوں میں انجام  
دے سکتے ہیں:-

### ① تجدید ایمان:

ایمان دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے اور فتنوں کے اس دور میں ہمیں  
تجدد ایمان کی بار بار ضرورت ہے۔ عَنْ أَبِي عَمْرُو، سُفِيَّانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ -  
رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قُلْ لِيْ فِي الإِسْلَامِ فَوْلًا لَا  
أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ؟ قَالَ: «قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ»<sup>(18)</sup>.

ابو عمرو سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول  
صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس کے بارے  
میں آپ کے سوا کسی اور سے نہ پوچھوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: «کہو میں

---

(18) یہ حدیث صحیح مسلم میں کتاب الإیمان باب جامع اوصاف الإسلام (کتاب: 62) میں مروی ہے۔

اللہ پر ایمان لا یا پھر اس پر ٹھیک ٹھیک قائم رہو»۔

نبی کریم ﷺ کو جامع کلمات سے نوازا گیا تھا، آپ ﷺ نے ان دو کلمات میں ایمان و اسلام کے تمام معانی و مفہوم کو سمیٹ دیا ہے، آپ ﷺ نے صحابی کو حکم دیا کہ اپنی زبان و دل سے اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور اطاعت و فرمان برداری کے کاموں پر ڈٹ جائیں اور اللہ و رسول کی نافرمانی اور خلاف ورزی سے دور رہیں۔

تجدید ایمان کا ایک اہم حصہ شرک سے توبہ ہے۔ آئیے مختصر طور پر یہ جائزہ لیتے چلیں کہ ہمارے معاشرے میں کون سے شرکیہ اعمال پائے جاتے ہیں جن سے توبہ کرنا ضروری ہے۔

غیر اللہ سے دعا کرنا، ان سے مدد مانگنا، ان سے فریاد کرنا، ان کی پناہ ڈھونڈنا، ان کے لئے قیام، رکوع اور سجده کرنا، ان کے لئے نذر و نیاز دینا یا جانور ذبح کرنا، کعبہ کے سوا کسی اور جگہ کا طواف اور حج کرنا وغیرہ، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد پکارنا، تعلیم گند اپہننا، کڑا چھلہ دھاگا پہننا، ماں باپ یا بیٹی یا کسی غیر اللہ کی قسم کھانا، میاں بیوی کے درمیان محبت یا نفرت پیدا کرنے والی عملیات کرنا یا کروانا، کسی قبر یا درخت یا پتھر سے تبرک لینا، کسی کی ذات یا جاہ

و مرتبہ کا وسیلہ لینا، وغیرہ وغیرہ اعمال سے توبہ کرنا سخت ضروری ہے۔  
اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شرک اور شرک تک پہنچانے والے تمام  
اعمال سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

### ② صلاۃ:

ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی صلاۃ ہے، لہذا عمل صالح کی محبویت  
کے ان دنوں میں فرائض و واجبات و سنن و نوافل کا خاص اهتمام کریں، سنن  
مؤکدہ وغیرہ مؤکدہ، تہجد اور دیگر نفلی صلاتوں کی حسب استطاعت ادا نیکی کریں۔  
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: «فرض کے  
بعد سب سے افضل صلاۃ رات کی صلاۃ [تہجد] ہے» <sup>(۱۹)</sup>۔

### ③ زکاۃ و صدقات:

زکاۃ و صدقات کی اہمیت کسی ذی شعور مسلمان سے مخفی نہیں، قرآن  
پاک میں جگہ جگہ صلاۃ کی ادائیگی کے حکم کے ساتھ زکاۃ دینے کا بھی حکم دیا گیا  
ہے، ظاہر ہے کہ صلاۃ خاص اللہ کا حق ہے، اور زکاۃ کا فائدہ اللہ کے بندوں کو

(۱۹) یہ حدیث صحیح مسلم میں کتاب الصیام باب فضل صوم الخرم (کتاب: 13 باب: 38)  
حدیث: 202 (1163)) میں مروی ہے۔

پہنچتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے حقوق کو اپنے دین میں بڑی اہمیت دی ہے۔ صدقہ و خیرات کی فضیلت میں ہے کثرت احادیث آئی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ «جس دن بھی بندے صحیح کرتے ہیں دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے: اے اللہ! خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرماء، دوسرا کہتا ہے: اے اللہ! سمیٹ کر رکھنے والے کو بربادی عطا فرماء»<sup>(20)</sup>۔ نیز نبی ﷺ کا ارشاد ہے: «ہر آدمی (بروز قیامت) اپنے صدقہ کے سایہ میں ہو گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے»<sup>(21)</sup>۔

#### صوم: ④

اللہ کے نبی ﷺ نے ان دس دنوں میں ہر نیکی کی ترغیب دی ہے،

(<sup>20</sup>) یہ حدیث متفق علیہ ہے، اسے امام بن حاری اپنی جامع صحیح میں کتاب الزکاة باب قول اللہ تعالیٰ {فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى}۔ (کتاب: 30 باب: 26 حدیث: 1374) میں لائے ہیں، اور امام مسلم نے اسے کتاب الزکاة باب فی المفق والممسک میں روایت کیا ہے۔ (کتاب: 12 باب: 17 حدیث: 57-1010)۔

(<sup>21</sup>) اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے۔ دیکھئے سلسلہ صحیح، حدیث: 3484۔

ظاہر ہے کہ صوم نیکیوں میں سے ایک عظیم نیکی ہے، یہ وہ نیکی ہے جس کا اجر و ثواب اللہ نے بے شمار رکھا ہے اور از خود اس کا اجر دینے کا وعدہ کیا ہے، حدیث قدسی ہے: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: كُلُّ عَمَلٍ إِبْرَاهِيمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ»<sup>(22)</sup>۔ «اللَّهُ تَعَالَى نَفَرَ مِنْ أَدْمَنَ كَمْ بَيْتٍ كَمْ عَمَلَ إِسْكَانَ لَتَهُ لَتَهُ بَيْتٍ سَوَاءً صُومٌ كَمْ، وَهُوَ بِشَكٍّ مِنْ يَمِّنَ لَتَهُ لَتَهُ بَيْتٍ هُوَ لَتَهُ لَتَهُ دَوْلًا كَمًا»۔ نبی ﷺ نے ان دنوں میں صوم رکھا ہے۔ عن هنیدہ بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تَسْعَ ذِي الْحِجَةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ. أَوْلَى اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَخَمِسِينَ»<sup>(23)</sup>۔

(<sup>(22)</sup>) یہ حدیث متفق علیہ ہے، اسے امام بخاری اپنی جامع صحیح میں کتاب الصوم باب هل یقول ابی صائم إذا شتم (کتاب:36 باب:9 حدیث: 1805) میں لائے ہیں، اور امام مسلم نے اسے کتاب الصیام باب فضل الصیام میں روایت کیا ہے۔ (کتاب:13 باب:30 حدیث: 161 - (1151)۔

(<sup>(23)</sup>) اس حدیث کو امام ابو داود [کتاب الصوم، باب فی صوم العشر، کتاب:14، باب:62، حدیث: 2439] اور امام نسائی [کتاب الصیام، باب صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم،

«ہنیدہ بن خالد اپنی بیوی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ کی ایک زوجہ مطہرہ نے بیان کیا کہ آپ ﷺ ذوالحجہ کے نو دن، محرم کی دسویں تاریخ اور ہر مہینہ میں تین دن---مہینہ کا پہلا دوشنبہ اور دو جمعرات----صوم رکھا کرتے تھے»۔

### حج و عمرہ:

حج ان دنوں کی خاص نیکی ہے جسے سال کے باقیہ دنوں میں نہیں کیا جاسکتا، حج کے فضائل معروف و مشہور ہیں، پھر بھی ہم چند باتیں ذکر کرتے ہیں:  
 ۱۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: «سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، قِيلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قِيلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ حَجًّا مَبُرُورًا»<sup>(24)</sup>.

کتاب: 22، باب: 70، حدیث: 2372] اور امام احمد [حدیث: 22388] نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے [صحیح ابو داؤد، حدیث: 2437، صحیح نسائی، حدیث: 2372] صحیح قرار دیا ہے۔

(<sup>(24)</sup>) یہ حدیث متفق علیہ ہے، اسے امام بخاری اپنی جامع صحیح میں کتاب الإیمان باب من قال إن الإیمان هو العمل (کتاب: 2 باب: 16 حدیث: 26) میں لائے ہیں، اور امام مسلم نے اسے کتاب

«رسول ﷺ سے پوچھا گیا: کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ اور اس کے رسول پر ایمان<sup>(25)</sup>، پوچھا گیا: پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا: اللہ کی راہ میں جہاد، پوچھا گیا: پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا: حجّ مقبول»۔

الإعان باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال میں روایت کیا ہے۔ (کتاب: 1  
باب: 36 حدیث: 135)۔

(۲۵) آج یہ بات جانے والے کتنے لوگ ہیں کہ ایمان سب سے افضل عمل ہے، یہ سوال [سب سے افضل عمل کونسا ہے؟] میں نے اپنے کئی دروس میں پوچھا، جواب دینے والوں نے کبھی صلاحت (نماز) کا نام لیا، کبھی غریبوں اور مسکینوں پر صدقہ و خیرات کا نام لیا، کبھی کوئی اور جواب دیا، شاید ہی کسی درس میں کوئی خوش نصیب ایسا کھڑا ہوا جو یہ کہے کہ ایمان سب سے افضل عمل ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ ایمان توحید کے بغیر ناقابل قبول ہے۔ ارشاد باری ہے: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُون﴾ [یوسف: 106] (ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہیں)۔ اور یہ بھی ذہن نشین رہے کہ شرک ہر عمل کو بر باد کر دیتا ہے حتیٰ کہ ایمان جیسے قیمتی اور افضل عمل کو بھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيْسْ أَثْرَكْتَ لَيْحَبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ الزمر: ۶۵ (اور (اے محمد ﷺ!) آپ کی طرف اور ان (بغیر وہ) کی طرف جو آپ سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وہی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل بر باد ہو جائیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے)۔

حج مقبول وہ حج ہے جس میں کسی گناہ کا ارتکاب نہ کیا گیا ہو۔

۲۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی دوسری روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے

رسول ﷺ کو ارشاد فرماتے سننا: «مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيْوُمْ وَلَدَّتُهُ أُمُّهُ»<sup>(26)</sup>۔ «جس نے اس گھر کا حج کیا، نہ کوئی بیہودہ گوئی کی اور نہ کوئی فسق کا کام کیا تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو کر لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جناب ہے»۔

۳۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد

فرمایا: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ»<sup>(27)</sup>۔ «ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے درمیانی گناہوں کا

(<sup>26</sup>) یہ حدیث متفق علیہ ہے، اسے امام بخاری اپنی جامع صحیح میں کتاب الحج باب فضل الحج المرور (کتاب: 32 باب: 4 حدیث: 1449) میں لائے ہیں، اور امام مسلم نے اسے کتاب الحج باب فضل الحج وال عمرة و يوم عرفة میں روایت کیا ہے۔ (کتاب: 15 باب: 79 حدیث: 438-1350)۔

(<sup>27</sup>) یہ حدیث متفق علیہ ہے، اسے امام بخاری اپنی جامع صحیح میں أبواب العمرة باب وجوب العمرة و فضلها (کتاب: 33 باب: 1 حدیث: 1683) میں لائے ہیں، اور امام مسلم نے اسے

کفارہ ہے اور حج مقبول کا بدله جنت ہی ہے»۔

۳۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے : رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ وَسَلَّمَ نے

فرمایا : «تَابُوُا بَيْنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّ الْمَبِرُورَةُ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ»<sup>(28)</sup>۔ «حج و عمرہ پے در پے کیا کرو کیونکہ یہ دونوں فقر و محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی لو ہے، سونے اور چاندی کی گندگی کو دور کرتا ہے اور حج مقبول کا ثواب جنت ہی ہے»۔

#### ⑥ صلاۃ عید اور قربانی :

صلاۃ عید اسلام کا ایک ظاہری شعار ہے، صلاۃ عید کی ادائیگی کے لئے

کتاب الحج باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة میں روایت کیا ہے۔ (کتاب: 15  
باب: 79 حدیث: 437)-(1349)

(<sup>(28)</sup>) اس حدیث کو امام ترمذی [کتاب الحج، باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة، کتاب: 7،  
باب: 2، حدیث: 738] اور امام نسائی [کتاب مناسک الحج، باب فضل المتابعة بين الحج  
والعمرة، کتاب: 24، باب: 6، حدیث: 263] اور امام احمد [حدیث: 3669] نے روایت کیا ہے اور  
علامہ البانی نے [صحیح ترمذی، حدیث: 810، صحیح نسائی، حدیث: 2631] صحیح قرار دیا ہے۔

خود بھی جانا چاہئے اور اپنے بال بچوں اور گھر کی عورتوں کو بھی لے جانا چاہئے۔

عَنْ أُمٍّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «أَمْرُنَا أَنْ تُخْرِجَ الْحِيَضَ يَوْمَ الْعِيدِينَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَيَشْهَدُنَّ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، وَيَعْتَزِلُ الْحِيَضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، قَالَتْ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: لِتُلْبِسْهَا صَاحِبُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا»<sup>(29)</sup>.

«ام عطیہ شیخہ فرماتی ہیں کہ نبی ﷺ نے ہم کو حکم دیا کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحی میں شادی شدہ، حیض والیوں اور غیر شادی شدہ پر وہ دارخواتین کو لے کر نکلیں۔ حیض والیاں عید گاہ سے الگ رہیں گی البتہ خیر اور مسلمانوں کی دعائیں حاضر ہوں گی۔ میں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہوتا؟ آپ نے فرمایا: اس کی (کوئی مسلمان) بہن اسے

<sup>(29)</sup> یہ حدیث متفق علیہ ہے، اسے امام بخاری اپنی جامع صحیح میں أبواب الصلاة في الشیاب باب وجوب الصلاة في الشیاب (كتاب: 9 باب: 1 حدیث: 344) میں لائے ہیں، اور امام مسلم نے اسے كتاب صلاة العيدین باب ذکر إباحة خروج النساء في العيدین إلى المصلى میں روایت کیا ہے۔ (كتاب: 8 باب: 1 حدیث: 12- (890)-

اپنی چادر اڑھالے»۔

قربانی سے متعلق ارشاد باری ہے: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاخْرُجْ﴾  
 الکوثر: ۲ (اپنے رب کے لئے صلاۃ پڑھئے اور قربانی کیجئے)۔ نیز نبی کریم ﷺ کی  
 دس سال مدینہ رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے۔ آپ ﷺ نے قربانی کی  
 تاکید بھی ہے آپ ﷺ کا فرمان ہے: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا  
 يَقْرَبَنَ مُصَلَّانَا»<sup>(۳۰)</sup>۔ جس شخص کے پاس وسعت ہو اس کے باوجود قربانی  
 نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے»۔

#### ⑦ قربانی کرنے والا اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے:

حدیث میں ہے: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ

---

(۳۰) اس حدیث کو ابن ماجہ نے کتاب الأضاحی باب الأضاحی واجہہ ہی ام لا؟ میں  
 روایت کیا ہے۔ (کتاب: 26 باب: 2 حدیث: 3123)۔ اور علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے۔ (صحیح  
 ابن ماجہ، حدیث: 3123)

فَلِيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»<sup>(31)</sup>. «ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اپنے ناخن اور بال کاٹنے سے رک جائے»۔

سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت میں اس قدر مزید اضافہ ہے کہ اپنے چھڑے کاٹنے سے بھی بازر ہے۔ روایت کے الفاظ اس طرح ہیں: عَنْ أُمّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمْسِ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا بَشَرَهُ شَيْئًا»<sup>(32)</sup>. «ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جب ذوالحجہ کا پہلا عشرہ آجائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اپنے بال اور چھڑے میں کچھ بھی

(<sup>31</sup>) یہ حدیث صحیح مسلم میں کتاب الأضاحی باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجه وهو مرید التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً (کتاب: 35 باب: 7 حدیث: 41 (1977)) میں مردی ہے۔

(<sup>32</sup>) اس حدیث کو ابن ماجہ نے کتاب الأضاحی باب من أراد أن يضحى فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره میں روایت کیا ہے۔ (کتاب: 26 باب: 11 حدیث: 3149)۔ اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ (صحیح ابن ماجہ، حدیث: 3149)

نہ کاٹے»۔

چھڑے کاٹنے کی تشریح یہ ہے کہ ہونٹ کے چھڑے یا ناخن کے آس پاس کے چھڑے یا پاؤں کی ایڑیوں کے چھڑے وغیرہ نہ ہی نوچے جائیں اور نہ ہی کاٹے جائیں۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس قربانی کی طاقت نہیں تو وہ قربانی والے دن اپنے ناخن اور بال وغیرہ کاٹ لے تو اسے قربانی کا ثواب مل جائے گا تو یہ بات درست نہیں کیونکہ اس کی دلیل سنن ابو داود کی ایک ضعیف روایت ہے جسے ہم آگے ذکر کر رہے ہیں، اس لئے قبل جست نہیں ہے۔ لہذا ناخن اور بال وغیرہ کے نہ کاٹنے کا حکم صرف اس شخص کے لئے ہے جو قربانی کرنا چاہتا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ دراصل اس وجہ سے ہے کیونکہ قربانی والا چونکہ حاجی کے بعض اعمال میں شریک ہے اس لئے اسے احرام کے بعض ممنوعات میں بھی شریک کر دیا گیا۔ واللہ اعلم۔

ابو داود کی وہ روایت جس کی طرف پیچھے اشارہ کیا گیا تھا مندرجہ ذیل ہے: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهِذِهِ الْأُمَّةِ،

قالَ الرَّجُلُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا مَنِيحةً أُنْثَى أَفَأُضَحِّي بِهَا؟ قَالَ: لَا وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَأَطْفَارِكَ، وَتَقْصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانِتَكَ، فَيُلْكَ تَمَامُ أَضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»<sup>(33)</sup>.

عبداللہ بن عمر و بن عاصی رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: «مجھے اضحی کے دن [ذوالحجہ کی دسویں تاریخ] کو عید منانے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دن اس امت کے لئے بنایا ہے، ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ اگر میرے پاس عطا یہ یا عماریت میں دی ہوئی بکری یا اوٹھی ہو تو بھی کیا میں اس کی قربانی کروں؟ آپ نے فرمایا: نہیں، بلکہ تم اپنے بال اور ناخن کاٹ لو، اپنی موچھیں کترلو، اپنے ناف کے ینچے کے بال موندلو، یہ اللہ کے نزدیک تمہاری مکمل قربانی ہو جائے گی»۔

(33) اس حدیث کو ابو داؤد نے کتاب الضحايا باب ما جاء في إيجاب الأضحى (کتاب: 10 باب: 1 حدیث: 2789) اورنسائی نے کتاب الضحايا باب من لم يجد الأضحية (کتاب: 43 باب: 2 حدیث: 4365) میں روایت کیا ہے۔ اور علامہ البانی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ (ضعیف البی داؤد، حدیث: 482)

## ⑧ ذکر الہی:

اللَّهُ تَعَالَى كَا رِشَادٍ هُوَ: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقْهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ اج: ۲۷ - ۲۸ (اپنے فائدے حاصل کرنے کو آجائیں، اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں ان چوپاپیوں پر جو پا تو ہیں، پس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھاؤ۔)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالْتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ»<sup>(34)</sup>.

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: «عشرہ ذوالحجہ اللہ کے بیہاں جتنا عظیم ہے اور اس میں کئے گئے عمل صالح اللہ کو جس قدر زیادہ محبوب ہیں اتنا کسی اور دن میں نہیں، لہذا ان دنوں میں تہلیل

(<sup>34</sup>) اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ (مسند احمد، حدیث: 6154)۔ اور محقق کتاب شعبہ ارجان اوقات نے صحیح قرار دیا ہے۔

و تکبیر اور تحمید زیادہ سے زیادہ کیا کرو»۔

تہلیل کا معنی ہے لا الہ الا اللہ کہنا، تکبیر کا معنی ہے اللہ اکبر کہنا اور تحمید کا معنی ہے الحمد للہ کہنا۔

عید الاضحی میں چاند دیکھنے یا اس کی اطلاع پانے سے لے کر تیرہ ذوالحجہ کی شام تک کثرت سے بہ آواز بلند تکبیر پکارتے رہنا سنت ہے البتہ عورتوں کو آہستہ اور پست آواز میں تکبیر کہنی چاہئے۔ تکبیر کا صیغہ یہ ہے: اللہُ أَكْبَرُ اللہُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللہُ، وَاللہُ أَكْبَرُ اللہُ أَكْبَرُ، وَلِلہِ الْحَمْدُ نافع کی روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید الفطر اور عید الاضحی کے دن عید گاہ پہنچنے تک تکبیر پکارا کرتے تھے۔ عید گاہ پہنچ کر امام کے آنے تک تکبیر کہا کرتے تھے۔ پھر جب امام آجاتا تو اس کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہنے<sup>(35)</sup>۔

نوٹ: بیک آواز اجتماعی تکبیر بدعت ہے۔ نبی ﷺ اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں۔ درست بات یہ ہے کہ ہر شخص تھا تھا الگ آواز میں تکبیر کہے۔

(35) اس حدیث کو امام دارقطنی نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ (سنن دارقطنی، کتاب العیدین، حدیث: 4)۔

### ⑨ تمام اعمال صالح:

ذوالحجہ کے ابتدائی دس دنوں میں ہر عمل صالح اللہ کو بہت محبوب ہے جیسا کہ حدیث گذر چکی ہے، چنانچہ سابقہ تمام اعمال کے علاوہ ہروہ عمل جو باعث اجر و ثواب ہے ان دنوں میں اس کا اہتمام کرنا چاہئے۔ دعا، توبہ و استغفار، تلاوت قرآن، نبی کریم ﷺ پر صلاۃ و سلام، تحصیل علم، دعوت الی اللہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ و خیرات، والدین کے ساتھ حسن سلوک، صلحہ رحمی وغیرہ وغیرہ۔

### ⑩ برائیوں سے دوری:

ذوالحجہ کے ابتدائی دس دنوں میں جس طرح ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے ایسے ہی گناہوں کا ارتکاب بھی سنگین اور شدید رخ اختیار کر لیتا ہے۔ اس لئے کہ یہ شریعت کا ایک عام قاعدہ ہے کہ فضیلت والے اوقات یا مقامات میں جس طرح نیکیوں کو عظمت حاصل ہو جاتی ہے ایسے ہی گناہوں کا ارتکاب خطرناک ہو جاتا ہے۔

لہذا ایک مسلمان کو ایسے تمام گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنا چاہئے جو اللہ تعالیٰ کے غصب یا لعنت کا باعث ہوں، مثلاً سود خوری، رشوت خوری،

زنگاری، چوری، ناحق کسی کا قتل، تیبیوں کا مال کھانا، کسی کی جان اور مال یا عزت و آبرو پر کسی قسم کا ظلم کرنا، معاملات میں فریب اور دھوکا دہی کا ارتکاب، امانتوں میں خیانت، والدین کی نافرمانی، رشتے توڑنا، بعض و کینہ رکھنا، اللہ کے حق کے بغیر تعلقات توڑنا اور بات چیت بذرکھنا، سگریٹ نوشی یا تباکونوشی، شراب پینا یا کسی اور نشہ آور چیز کا استعمال کرنا، غیبت و چغلی، جھوٹ بولنا اور جھوٹ گواہی دینا، ناحق دعوے کرنا اور جھوٹی قسمیں کھانا، داڑھی مونڈانا یا کتروانا، موچھوں کو پست کے بجائے لمبی رکھنا، کبر و غرور میں مبتلا ہونا، کپڑوں کو ٹخنؤں سے نیچے لے کانا، گانے سننا اور آلات مو سیقی اپنے پاس رکھنا، گندی اور عریاں فلمیں اور مجرمانہ سیر میل دیکھنا، تاش اور پتے کھلینا، عورتوں کا بے پردگی اور کافر عورتوں سے مشابہت اختیار کرنا۔ اور ان کے علاوہ وہ تمام کام جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔

## مراجع و مصادر

- 1 قرآن کریم مع اردو ترجمہ و تفسیر مطبوعہ شاہ فہد قرآن کریم پرنگ  
کمپلیکس، مدینہ منورہ، سعودی عرب۔
- 2 الجامع الصحیح للإمام البخاری
- 3 الجامع الصحیح للإمام مسلم
- 4 السنن الأربع (الترمذی و أبو داود و النسائی و ابن  
ماجة) مع تخریج الشیخ الألبانی
- 5 صحیح الجامع الصغیر للشیخ الألبانی
- 6 سلسلة الأحادیث الصحیحة والضعیفة للشیخ الألبانی
- 7 مسند الإمام أحمد بتحقيق الأرنؤوط
- 8 موطأ الإمام مالک
- 9 سنن الدارقطنی بتحقيق الأرنؤوط
- 10 صحیح ابن حبان
- 11 المکتبة الشاملة الالکترونیة الإصدار 3.47